```
یہ اثر محمہ بن اسحاق نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ محجے آل ابو بحر میں سے کسی نے بتلایا کہ
                                                                                                                                                  عائشہ رضی اللہ عنها کہتی میں کہ: (میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھبی گم نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر معراج کروایا گیا)
                                                                                                                                                                                                                                                                        -2126X:1
                                                                                                                                                    بر: (22175) جلداور صنحه نمبر: (14/445) [] میں نقل کیا ہے اس طرح قاضی عیاض نے بھی اپنی کتاب: "الشکالال ﷺ <del>[ 4/14] ۔</del>
                                                                                                                                                    یہ اژ ضعیت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں ہے ، بلکہ کچھے علمائے کرام نے اسے موضوع یعنی من گھڑت اور خودساختہ بھی قرار دیا ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                             هه: 229) میں کہتے ہیں:
                                                                                                                                                                                                                " یہ اثر ضعیف ہے ،ابن اسحاق نے اسے منقطع سندسے روایت کیا ہے۔"
                                                                                                                      ت ابن اسحاق نے معاویہ رمنی اللہ عنہ سے بھی بیان کی ہے ، لیکن اسے بھی السیے ہی ضعیت قرار دیا ہے جیسے عائشہ رمنی اللہ عنہا کے اثر کوضعیت قرار دیا ہے ، چانچہ وہ کہتے ہیں :
                                                                                                                                                                                                                                                                          ص246)
                                                                                                                                                                                                                                                ى طرح شخ محدرشيدر صنارحمه الله كست مين:
"ہوستخا ہے کہ آپ کوعائشہ اورمعاویہ رضی الشہ عنهما سے منقول دواڑ ملیں جن سے سمجھ آتی ہے کہ معراج اوراسراء کا واقعہ آپ صلی الشہ علیہ وسلم کوجہ دمبارک کے ساتھ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ دونوں اڑاس پایہ کے نہیں ہیں کہ اہل علم اور چہ ثین انہیں دلیل بنائیں، ان دونوں آٹار کوا بن اسحاق نے اپنی سیر،
                                                                                                                                                                                                                             ن 128 جرى مين موئى جبكه معاويه رصى التجرعي كين فامين تك
نی الند عنہ کے اثر کے بارے میں آپ خود ہی دیچے سکتے میں کہ اس کی سند ہی نمیں ہے ، کیونکہ ابن اسحاق کا یہ کسان کھیے ابو بحرکی آل میں سے کسی نے بتلایا یہ ابن اسحاق کی جانب سے واضح ابسام ہے ، چنانچہ اب انہیں بیان کرنے والاراوی کا علم ہی نمیں ہے ، وہ راوی ثقہ تنایا نہیں ؟ کیا اس راوی نے عائشہ رضہ
                                                                                                                                                          ان تهام ہاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں حدیثیں منقطع ہیں، راوی مجمول ہیں، اورایسی احادیث کواہل علم دلیل نہیں بناتے "انتهی
                                                                                                                                                                                                                                                                    ار"(14)7944
                                                                                                                                                                                                                                بن اسحاق کے نسخے بھی اسے بیان کرتے ہوئے مختلف میں :
چنانے کچہ میں ہے کہ : "مافقدٹ.."منتکم کے صفے کیساتھ یعنی : "میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم کا جسم مفقور نسیں پایا"جبکہ کچھ نسخوں میں ہے کہ : "مافجہ سی معلوب ہے کہ : "مافحہ ہے کہ اللہ علیہ وسلم کا جسم مفقور نسیں پایاگیا"اگر پہلے نسخ کوسا منے رکھیں تو یہ بات واضح جھوٹ اور ا
                                                                                                                                                                                                                                                        او" (3/101) میں کہتے ہیں:
                                                                                                                                                                                                                                                          ند (3/103) میں کہتے ہیں:
                                                                                                                                                                                                                                                             " یہ حدیث موضوع ہے "
                                                                                                                                                                                                                                                        ابن عبدالبر رحمه الله كين مي كه:
علم نے مائشہ رمنی اللہ عنہا کی جانب منبوب قول : "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس رات گم نہیں پایا " کوواخع ترین جھوٹ شمار کیا ہے؛ کیونکہ اسراء اور معراج کے وقت آپ رصنی اللہ عنہا آپ صلی کیساتھ نتی ہی نہیں ، بلکہ آپ رصنی اللہ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ رضتی ا
                                                                                                                                                                                                                                                                 بط(1344 114 55 الكان
                                                                                                                                                                                                                                                                               لمداعلم.
```